



ردمآثر: 126

پتھی کے 50 مدنی پھول



شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال
کامث برکاتہم
العش الیومہ

محمد الیاس عطار قادری رضوی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میٹھی کے 50 مدنی پھول دُرُودِ شَرِيفِ كِي فَضِيلَت

حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں (سارے وُرد، وظیفے چھوڑ دوں گا اور) اپنا سارا وقت دُرُودِ خَوَانِي میں صرف کروں گا۔ تو سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: یہ تمہاری فکریں دُور کرنے کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔
 (ترمذی ج ۴ ص ۲۰۷ حدیث ۲۴۶۵ دار الفکر بیروت)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت میٹھی بھی ہے جو کہ صحتِ انسانی کیلئے نہایت مفید ہے اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ میں (سگِ مدینہ عُنْفَى عَنْہ) نے بھی اس سے نَفْع اُٹھایا ہے لہذا فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَفَعَ النَّاسَ - یعنی ”انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔“ پر عمل کی نیت سے میٹھی کے بارے میں 50

مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ کیلئے یاد رکھئے کہ کسی بھی شخص کے بتائے ہوئے یا کتابوں میں لکھے ہوئے بلکہ احادیثِ مبارکہ میں بیان کردہ علاج

﴿فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم﴾: جس نے مجھ پر ایک بار دُرُودِ بَاقِ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ اِسْتَشْفَا بِاَلْحَلْبَةِ۔ یعنی ”میٹھی سے شفا

بھی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہئیں۔

﴿۱﴾ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اِسْتَشْفَا بِاَلْحَلْبَةِ۔ یعنی ”میٹھی سے شفا

حاصل کرو،“ میٹھی کو عربی میں حَلْبَة، فارسی میں شَنَبَلِیْلَہ، پشتو میں مَلخُوڑَہ اور انگریزی میں

(فینوگریک) FENUGREEK بولتے ہیں۔

﴿۲﴾ میٹھی میں وٹامن B، فولاد، فاسفورس اور کیشیم کی موجودگی جسمانی کمزوری اور خون کی

کمی دُور کرتی ہے۔

﴿۳﴾ میٹھی دال کی طرح پکا کر، یا کھجڑی بنا کر، یا میٹھی کا پوڈر چٹنی یا چھاچھ میں شامل کر کے

بھی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

﴿۴﴾ تھوڑے بہت میٹھی دانے ہر طرح کی ترکاری وغیرہ میں ضرور ڈالنے چاہئیں۔

﴿۵﴾ میٹھی آنکھوں کی پہلی رنگت، منہ کی کڑواہٹ اور دل خراب ہونے کی کیفیت ختم کرتی ہے۔

﴿۶﴾ جس کے منہ سے لعاب یعنی رال بہتی ہو اُس کیلئے میٹھی کا استعمال حیرت انگیز تاثر رکھتا ہے۔

دائمی قبض اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج

﴿۷﴾ میٹھی بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں اور بھوک کی کمی دُور کرتی ہے۔

﴿۸﴾ میٹھی پیٹ کی ہوا خارج کرتی اور جگر کا فعل دُست کرتی ہے۔

مدین

۱: تنزیہ الشریعة ج ۲ ص ۲۴۶ دار الکتب العلمیة بیروت

﴿فَرْمَانُ مُصِطَفَى﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اَسْخَسْ كَى نَاكْ خَاكْ اَلُوْدِ هُوَ جَسْ كَے مَاسِ مِیرَاؤْ كِرْ هُوَ اوروَ مَجھ بَرَزُوْدِ مَآكْ نَ بَرُھے۔ (ترمذی)

﴿۹﴾ آنتوں کی کمزوری کے سبب اگر دائمی قبض ہو تو 5 گرام میتھی کا سُوف (پوڈر) گُر میں ملا کر صُبح و شام پانی کے ساتھ کچھ دن تک استعمال کرنے سے نہ صرف دائمی قبض دُور ہوگی بلکہ جگر کو بھی طاقت ملے گی، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ۔

﴿۱۰﴾ معدے کے آلسر یا انٹریوں کے زخم اور سوجن میں میتھی کا استعمال بہت مفید ہے۔

﴿۱۱﴾ پیش کے مریضوں کیلئے 5 گرام (چھوٹی چمچ) پیسی ہوئی میتھی پانی سے استعمال کرنا مفید ہے۔

﴿۱۲﴾ میتھی پیٹ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مارتی ہے۔

﴿۱۳﴾ میتھی کے دانے مُسَكِّن (یعنی تسکین بخش)، ہاضم اور پیٹ کے تناؤ کھنچاؤ اور اچھارا (یعنی پیٹ پھولنے کا مرض) ختم کرتے ہیں۔

کمر اور جوڑوں کا درد

﴿۱۴﴾ میتھی کا استعمال کمر درد، تلی کے وَرَم اور گنٹھیا (جوڑوں کے درد) وغیرہ میں نافع (یعنی فائدہ مند) ہے۔

﴿۱۵﴾ میتھی دانے گُر کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔

﴿۱۶﴾ گنٹھیا (یعنی جوڑوں کے درد) کے لئے میتھی کے دس گرام تازہ پتے پانی میں پیس کر صُبح نہار منہ استعمال کیجئے۔ (میتھی کے پتے سبزی والوں سے مل سکتے ہیں)

خونی و بادی بو اسیر کا علاج

﴿۱۷﴾ میتھی کے مسلسل استعمال سے اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْلِ سے بو اسیر کا خون بند ہو جاتا

﴿فَرْمَانُ مُصِطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾ جو مجھ پر دس مرتبہ ڈرود پاک پڑھے اللہ عزوجل اس پر سورتیں نازل فرماتا ہے۔ (طرائق)

اور بعض اوقات مے (پائلز۔ PILES) جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ساتھ میں انجیر کا بھی استعمال کیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

﴿۱۸﴾ بوا سیر کیلئے ایک نسخہ لا جواب یہ ہے کہ 250 گرام میتھی دانے اور 250 گرام چھوٹی الائچی لیجئے اور دونوں کو باریک پیس لیجئے۔ دن میں دو یا تین بار چائے کی ایک ایک چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔

﴿۱۹﴾ یہ نسخہ مذکورہ طریقے سے استعمال کرنے سے بوا سیر کے علاوہ ان بیماریوں کیلئے بھی مفید ہے: بھوک کم لگنا، پرانی گیس، تجیر (یعنی وہ بخارات جو کھانے کے بعد دماغ کو چڑھتے ہیں اور جسم کو گرمادیتے ہیں)، بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں آنا، سینے کی جلن، پیٹ کی جلن، پیٹ پھولنا، کھانا کھاتے ہی غنودگی یعنی نیند چڑھنا اور کھانا کھاتے ہی طبیعت میں اکتاہٹ اور بے زاری پیدا ہونا۔

﴿۲۰﴾ کھانسی کی دوائیں عام طور پر معدہ خراب کرتی ہیں لہذا پرانی کھانسی کے مریض کا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے معدے کی جلن اور بد ہضمی کے مرض سے بچنا دشوار ہے، میتھی کے استعمال سے نہ صرف کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ معدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔

﴿۲۱﴾ میتھی بلغم نکالتی اور پھیپھڑوں کی اندرونی جھلیوں کی حفاظت کرتی ہے۔

﴿۲۲﴾ میتھی دانوں کا پوڈر گرم پانی میں گھول کر پینا کھانسی اور دمے میں مفید ہے۔

﴿۲۳﴾ میتھی دانے پانی میں بلکی آنچ پر خوب اچھی طرح اُبالیں، جب قابل برداشت ہو جائے تو اس سے غرارے کر لیجئے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ گلے کی خراش اور سوجن کے لئے مفید

﴿فَرْمَانٌ مُّصِطَفًى عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ﴾ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اُس نے مجھ پر رُز و پاک نہ بڑھا تحقیق وہ بدرجعت ہو گیا۔ (ابن سنی)

پائیں گے۔

خارجی سوجن اور پھوڑوں کا علاج

﴿۲۴﴾ میٹھی دانوں کا چھلکا اتار کر اُس کا گودا بطور لپ (پُول ٹِس - POULTICE)

سوجن یا پھوڑوں پر باندھنے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔

منہ کے چھالے

﴿۲۵﴾ منہ کے اندر، زَبان کے نیچے یا ہونٹوں کی اندرونی سطح پر چھالے ہوں تو میٹھی پکا کر

کھائیے یا میٹھی کے تازہ پتے پانی میں خوب اُبال کر اس کے نیم گرم پانی سے صُبح و شام غرارے اور گلیاں کیجئے اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔

شوگر اور ذیابیطس کا علاج

﴿۲۶﴾ میٹھی دانوں کا استعمال ذیابیطس (ذیابٹی - ڈیابیطس - ڈیابیطس - DIABETES)

کے ایسے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے جو ”انسولین“ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران چاول، آلو، گوبھی، آرومی، کیلا اور دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے، صُبح کی چہل قدمی مفید ہے۔ میٹھی کے استعمال کے دوران ایلو پیتھک دوائیں استعمال ہو رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

﴿۲۷﴾ میٹھی دانے دَر دَرے (یعنی موٹے موٹے) پسے ہوئے 20 گرام روزانہ کھانے

سے اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ صُرف دس دن کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی اگرچہ علاماتِ مَرَض میں کمی ہونے کے سبب مریض کو خود بھی فائدے کا اندازہ ہو

﴿فَرَقَانٌ يُصَيِّطُ﴾ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ: جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار زود و پاک پڑھا اُسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ (مجمع الزوائد)

جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ ہر دس دن بعد شوگر کا ٹیسٹ کروالیا جائے۔ شوگر کے تناسب سے میتھی دانوں کا استعمال روزانہ 100 گرام تک بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں میتھی کے بیج دال کی طرح یا کسی سبزی میں ملا کر پکا کر بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

﴿۲۸﴾ میتھی دانوں کا ایک ذیلی اثر (سائیڈ ایفیکٹ۔SIDE EFFECT) یہ ہے کہ بعض مریضوں کا پیٹ شروع میں کچھ پھول جاتا ہے لیکن بعد میں یہ اثر خود بخود دور بھی ہو جاتا ہے۔

﴿۲۹﴾ لو شوگر کے مریض میتھی استعمال نہ کریں۔

میتھی کو لیسٹرول میں کمی لاتی ہے

﴿۳۰-۳۱﴾ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ میتھی کے دانے استعمال کرنے سے کو لیسٹرول (CHOLESTEROL) اور ٹرائی گلیسر رائڈز (Triglycerides) میں کمی آتی اور دل کی بیماریوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

﴿۳۲﴾ میتھی پیشاب آور ہے، گردوں کی سوجن کے سبب جب پیشاب کم آتا ہے تو میتھی کے استعمال سے بفضلہ تعالیٰ پیشاب کھل کر آتا ہے۔

سردیوں میں میتھی کے فائدے

﴿۳۳﴾ سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے میتھی دانے چھوٹا چھچ آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ۔

﴿۳۴﴾ سردی کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہو تو میتھی کے دانے شہد کے ساتھ استعمال

﴿فَرَمَانٌ مُّصِطَّطٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ﴾ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اُس نے مجھ پر زور و شرف نہ پڑھا اُس نے جفا کی۔ (عبدالرزاق)

کرنے سے اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فائدہ ہوگا۔

بال لمبے کرے، جھڑنے سے بچائے

﴿۳۵﴾ میٹھی دانوں کو پانی میں کچھ دیر بھگو کر نرم کر لینے کے بعد پیس کر ہفتے میں دو بار سر پر اس طرح لگائیں کہ جڑوں میں بھی لگ جائے اور کم از کم ایک گھنٹہ لگا رہنے دیجئے اس کے بعد سردھو لیجئے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بال کرنے بند ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہوں گے۔

﴿۳۶﴾ میٹھی کے ساگ یعنی پتے چہرے پر ملنے سے چہرہ صاف ہوتا ہے۔

عورتوں کی بیماریاں

﴿۳۷﴾ عورت کو سن بلوغت کی ابتدا میں ماہواری کے سبب بسا اوقات جسمانی تھکن، کمزوری، چہرے پر بے رونقی اور زردی آ جاتی ہے، ماہواری کی زیادتی کے سبب بھی ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے موقع پر میٹھی بھون کر گوشت یا کسی دوسری سبزی کے ساتھ کھانے سے اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ یہ حالت جاتی رہے گی۔

﴿۳۸﴾ جن عورتوں کو بار بار خون آتا ہو ان کیلئے میٹھی کا استعمال مفید ہے۔

﴿۳۹﴾ میٹھی بچہ دانی کے ورم (یعنی سوجن) اور ڈر دو غیرہ میں فائدہ مند ہے۔

﴿۴۰﴾ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کا دودھ کم پیدا ہو رہا ہو تو میٹھی کے بیج تھوڑی سی مقدار میں یا کسی ماہر طبیب کے مشورے سے استعمال کئے جائیں تو دودھ کی پیدائش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

﴿فَرَمَانٌ مُّصِطَفَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ﴾ جو مجھ پر روزِ معرور و درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔ (سنن ابوجہ)

طبیعت ہشاش بشاش ہو

﴿۴۱﴾ میتھی کی پیتیاں اُبالنے کے بعد ہلکا سا بھون کر کھائیں تو بدن کی ایک خلطِ صُفْرا (یعنی پت۔ زرد رنگ کا کڑوا پانی) کی زیادتی ختم ہو کر طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے۔

﴿۴۲﴾ میتھی کی پیتیاں بھوک بڑھاتی ہیں۔

﴿۴۳﴾ میتھی کی پیتیاں قبض کھولتی ہیں، اجابت کھل کر آتی ہے اور یوں انسان خود کو تروتازہ اور ہلکا چھلکا محسوس کرتا ہے۔

میتھی کے قہوے کے مدنی پھول

﴿۴۴﴾ میتھی کا قہوہ (یعنی جوشاندہ) بنانا بہت آسان ہے، حسبِ ضرورت میتھی دانے پانی میں ڈال کر چولھے پر کچھ دیر اچھی طرح جوش دے کر چھان لیجئے، قہوہ (جوشاندہ) تیار ہے۔

﴿۴۵﴾ میتھی کا قہوہ کھانسی، حلق کی سوجن اس کی جلن اور دُرد میں فائدہ کرتا ہے۔

﴿۴۶﴾ میتھی کا قہوہ سانس کی گھٹن اور معدے کی جلن کیلئے مفید ہے۔

﴿۴۷﴾ میتھی کا قہوہ، معدے اور انٹریوں کی گندگیاں صاف کرتا اور نظامِ ہضم سے اضافی اور نقصان دہ رطوبتیں خارج کرتا ہے۔

﴿۴۸﴾ میتھی کا قہوہ پسینہ لاتا ہے اور اگر خون میں کسی قسم کے جراثیم کی گندگی یا زہر ہے اور اس کے سبب بخار آرہا ہے تو اسے جسم سے خارج کرتا ہے نیز بخار کا دَورانیہ بھی کم کر دیتا ہے۔

﴿۴۹﴾ عام امراضِ نزلہ، رُکام اور بخار میں خالی پیٹ دن میں تین چار مرتبہ ایک کپ میتھی

﴿فَرَمَانَ نُصِطْفَةَ عَلِيٍّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ﴾ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اُس نے مجھ پر دُور و پاک نہ بڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ (طبرانی)

کا قہوہ پیا جائے تو اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ دو تین دن میں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔

﴿۵۰﴾ اگر منہ میں بدبو آتی ہو، جسم کے کسی حصے مثلاً ناک کان وغیرہ میں بدبو دار مواد جمع

ہو جاتا ہو، پیٹ سے سخت بدبو دار ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، بدن سے پسینے کی تیز بدبو نکلتی ہو تو

میٹھی کا قہوہ مسلسل چند روز تک استعمال کیجئے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ یہ آپ کے جسم سے سارے

فاسد اور زہریلے مادے خارج کر دے گا اور بدبو کی شکایت جاتی رہے گی۔

گڑکا خور کے تباہ حال منہ کا علاج ہو گیا! (حکایت)

ایک صاحب کے بیان کا خلاصہ ہے: میں نے تقریباً 20 سال پان گٹکے کھائے

ہیں اور اس قدر کثرت سے کھائے ہیں کہ نماز اور کھانا کھانے کے علاوہ میرا منہ کبھی خالی نہیں

رہتا تھا! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اب چار سال سے پان گٹکے بالکل چھوٹ گئے ہیں، چھوڑنے کی

وجہ یہ بنی کہ میرا منہ اندر سے کچا ہو کر بالکل گل گیا تھا، میں سالن تو سالن دہی سے بھی روٹی

نہیں کھا سکتا تھا، سالن اور دہی سے میرے منہ میں جلن مچتی تھی۔ بغیر نمک مرچ کے صرف

سادہ کچھڑی کھاتا تھا، میرا منہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کھلتا تھا۔ جب یہ بات میرے سامنے

آئی کہ پان گٹکے وغیرہ سے منہ کا کینسر ہوتا ہے، میں بہت پریشان ہو گیا۔

ایک بار کسی 70 سالہ بوڑھے چوکیدار سے ملاقات پر میں نے اپنی پریشانی بیان کی،

اُس نے کہا: بازار سے دس روپے کی پھٹکری اور دس روپے کے میتھرے (یعنی میٹھی دانے)

جو کہ اچار میں ڈالے جاتے ہیں وہ لے آؤ اور یہ دونوں دوائیں ایک اسٹیل کے برتن میں چار

﴿فَرْمَانٌ مُّصَدِّقٌ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ﴾ مجھ پر زرد و پاک کی کثرت کروے شک تمہارا مجھ پر زرد و پاک بڑھنا تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہے۔ (ابوبلی)

لیٹر پانی کے اندر ڈال کر چولہے پر ہلکی آنچ پر رکھ دو، پھٹکری بھی پانی میں حل ہو جائے گی اور میتھرے (یعنی میتھی دانے) بھی پانی میں پھٹ جائیں گے، جب ایک لیٹر پانی جل جائے، یعنی تین لیٹر پانی رہ جائے تو چولہے سے اتار لو اور ٹھنڈا ہونے پر اس کو بوتلوں میں بھر کر دھوپ سے بچا کر سائے میں ٹھنڈی جگہ پر رکھ دو مگر فرنج میں نہ رکھنا اور صُبح نہا ر منہ (یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ) تھوڑا پانی منہ میں روک کر غرارے اور کُتیاں کرو، اسی طرح دن میں چار پانچ مرتبہ اور سوتے وقت بھی کرنا ہے اور پرہیز یہ بتایا کہ کُلی اور غرارے کرنے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔

بڑے صاحب نے بتایا کہ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ پھٹکری سے منہ اور گلے کے تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے اور میتھروں (یعنی میتھی دانوں) سے منہ اور گلے کے سارے زخم صحیح ہو جائیں گے اور بس ایک ہفتے کی بات ہے اس کے بعد جو مرضی ہے کھاؤ پیو اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی۔

میں نے یہ نسخہ اسی دن بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ایک ہفتے کے اندر میرا منہ صحیح ہونا شروع ہو گیا، منہ کے زخم بھر کر ختم ہونا شروع ہو گئے اور پھر میں نے اس نسخے کے بعد ایک اور نسخہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ نسخہ پودینے کا تھا کیوں کہ میں نے پڑھا تھا کہ پودینہ انٹی الرجک (ANTI-ALLERGIC) ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ پودینہ کیمسٹر کو ختم کرتا ہے لہذا میں نے پودینہ سکھا کر بوتل میں

فَرَمَانَ مُصِطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: جِس كے بآس میرا زكړه واوروہ مجھ برڈو وشریف نہ بڑھتوہ لوگوں میں سے کجوس ترین شخص سے۔ (مسماجر)

ڈال لیا اور دن میں کئی بار ڈو وچنگلیاں لے کر منہ میں ڈال کر خوب چوس چوس اور چبا چبا کر کھاتا معمولی سی جلن ہوتی مگر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ میرا منہ بالکل صاف ہو گیا۔ کہاں میں معمولی سی مزج بھی نہ کھا سکتا تھا مگر اب میرا منہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا ہے، جیسے میں نے کبھی پان اور گنگلے کھائے ہی نہیں اور اب اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ پان گنگلوں سے ہمیشہ کیلئے کان پکڑ لیے ہیں۔ جبرے تو میرے زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے مگر پھر بھی میں نے نماز سے پہلے دانتوں میں مسواک شروع کر دی، مسواک کو دانتوں میں دبا کر جبرے ہلکے ہلکے چلاتا جس سے وہ بھی اپنی اصل حالت پر آگئے ہیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ میں بالکل صحت یاب ہو چکا ہوں اور اس منہ کے موذی مرض سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ (پان گنگلے وغیرہ کی تباہ کاریاں جاننے کیلئے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ”پان گنگا“ کا مطالعہ فرمائیے)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

آنکھوں کے نمبر اور موتیا ختم ہو گیا! (حکایت)

کسی کا بیان ہے: میرے بھائی کی نظر روز بروز کمزور ہوتی اور چشمے کے نمبر بڑھتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے کسی کے مشورے کے مطابق عمل کیا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ان کی نظر دُرُست ہو گئی! ہماری نانی جان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا، جب انہوں نے اس نئے پر عمل کیا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ان کی نظر بھی بحال ہو گئی! علاج کا طریقہ: خالص آب زم زم کسی خالی ڈراپر میں ڈال لیجئے اور پانچوں نمازوں کے بعد دونوں آنکھوں میں ایک

(طرائی)

فَرَمَانِ مُصِطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: تم جہاں بھی ہو مجھ پر ڈرؤ اور پڑھو کہ تمہارا درو مجھ تک پہنچتا ہے۔

ایک قطرہ ڈالنے اگر آنکھیں خراب ہوئیں تو جلن ہوگی مگر گہرائی نہیں جوں جوں آنکھیں ٹھیک ہوتی جائیں گی اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ جلن کم ہوتی جائے گی۔ (مدتِ علاج: تا حصولِ شفا)

اسکوٹر کے پیٹرول میں برکت کی حکایت

ایک صاحب کا بیان ہے: میں اپنی موٹر سائیکل میں 8 لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا جو صرف ایک ہفتہ چلتا تھا۔ پھر میں نے پیٹرول ڈلوانے سے پہلے اڈل آرڈر ڈروڈ شریف کے ساتھ سات بار سُوْرَةُ الْكُوْثُرِ پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کرنا شروع کر دیا، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اب وہی 8 لیٹر پیٹرول تین ہفتے چل جاتا ہے۔



غز، مدینہ، بیج،
مغفرت اور بے حساب
جنت الفردوس میں آتا
کے پڑوس کا طالب

۲۵ رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

24-07-2014


یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کودے دیجئے

شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آعراس اور جلوسِ میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور منڈنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے، گاہکوں کو بہ نیتِ ثواب تحفے میں دینے کیلئے اپنی ڈکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے، اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک عدد دستوں بھرا رسالہ یا منڈنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب ثواب کمائیے۔

سُنَّتِ مِی بھاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ تبلیغِ قرآن و سنّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مجھے مجھے مدّنی ماحول میں بکثرت سنّتیں سکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنّتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدّنی التجا ہے۔ عاشقانِ رسول کے مدّنی قافلوں میں یہ نیتِ ثواب سنّتوں کی تربیت کیلئے سفر اور روزانہ فکرِ مدینہ کے ذریعے مدّنی انعامات کا سالہ پُر کر کے ہر مدّنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمے دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے، اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے پابند سنّت بننے لگنا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گڑھے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مدّنی انعامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مدّنی قافلوں“ میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ



ISBN 978-969-631-414-1



0125134



فیضانِ مدینہ، محلّہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net